

# والدین کے حقوق کا بل

کسی معذور بچے کے والدین کی حیثیت سے آپ کو درج ذیل حقوق حاصل ہوں گے:

1. انفرادی تعلیمی پروگرام (IEP) کی میٹنگز میں شرکت کرنا اور اپنے بچے کے مفادات کی ترجمانی کرنا۔
2. IEP میٹنگز میں کسی قانونی مشیر یا ماہر کو بھی ساتھ لے جانا۔
3. اپنے بچے کے بارے میں تجزیے کی دستاویزی نقل وصول کرنا، اس سے غیر متفق ہونا اور سرکاری خرچ پر ایک خودمختار تعلیمی تجزیے (IEE) کی درخواست کرنا۔
4. تجزیاتی عمل کے طور پر بیرونی ذرائع سے ایک تحریری رپورٹ فراہم کرنا۔
5. اپنے بچے سے متعلقہ تمام تعلیمی ریکارڈز کا معائنہ کرنا اور IEP کی ایک نقل وصول کرنا۔
6. IEP ٹیم کے فیصلوں سے عدم اتفاق کرنا اور تنازعہ کے حل کے مراحل پر عمل کرنا بشمول: ایک باسہولت IEP میٹنگ کی درخواست کرنا، شعبہ برائے بنیادی و ثانوی تعلیم میں بچے کی شکایت درج کروانا، ریاستی خرچ پر مصالحت کی درخواست کرنا، استغاثے و سماعت کا ایک غیر جانبدارانہ عمل ہونا اور اس سماعت کے فیصلے کی اپیل عدالت میں کرنا۔
7. IEPs کے جائزوں اور IEP کے کسی بھی پہلو میں تبدیلی کے لیے کسی فیصلے میں شرکت کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کے تعلیمی جائے تعین یا مفت اور موزوں سرکاری تعلیم کی فراہمی میں تبدیلی کے حوالے سے پیشگی تحریری نوٹس وصول کرنا۔
8. اپنے بچے کو کم ترین محدود ماحول میں اور موزوں ترین حد تک عمومی تعلیمی کلاس روم میں رکھوانا۔
9. اگر انگریزی زبان میں آپ کی اہلیت محدود ہو، تو مؤثر ابلاغ کی فراہمی کے لیے سہولت کی درخواست کرنا۔
10. آپ کے بچے کی منفرد ضروریات کی تکمیل کے لیے IEP کے ساتھ مرتب کردہ ایک مفت موزوں سرکاری تعلیم، جس میں درج ذیل اور ان کے علاوہ بھی دیگر خدمات شامل ہوسکتی ہیں: خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات، جیسے کہ معاون ٹیکنالوجی ڈیوائسز اور خدمات؛ نقل و حمل؛ قوتِ گویائی کی طبی خدمات؛ قوتِ سماعت کی خدمات؛ ترجمہ نگاری کی خدمات؛ نفسیاتی خدمات، بشمول کردار و طرزِ عمل میں بہتری لانا؛ جسمانی تھراپی؛ پیشہ ورانہ تھراپی، تفریح، بشمول معالجاتی تفریح؛ مشاورتی خدمات بشمول بحالی کی مشاورت؛ ابتدائی تعارف اور حرکت پذیری کی خدمات؛ اسکول کی صحت عامہ کی خدمات؛ اسکول نرس کی خدمات؛ سماجی کام کی خدمات؛ والدین کی مشاورت اور تربیت؛ اور تشخیصی یا تجزیاتی مقاصد کے لیے طبی خدمات۔
11. وفاقی معذور افراد کے تعلیمی ایکٹ (IDEA) یا وفاقی بحالی ایکٹ 1973 کے سیکشن 504 کے تحت ہونے والی ہر میٹنگ کی آڈیو ریکارڈنگ کرنا۔

یہ دستاویز وفاقی یا ریاستی قانون کی جانب سے عطا کردہ کسی بھی حق یا حقوق میں مزید کسی حق کی فراہمی کا اضافہ نہیں کرتی بلکہ اس کا مقصد صرف معلومات فراہم کرنا ہے۔ مزید معلومات کے لیے، شعبہ برائے بنیادی و ثانوی تعلیم، دفتر برائے خصوصی تعلیم سے 0699-751-573 یا [webrepliespeco@dese.mo.us](mailto:webrepliespeco@dese.mo.us) پر رابطہ کریں